

## برامپٹن کے پہلے سالانہ ایکسیسبلٹی ایوارڈز کے ذریعے برامپٹن کے متعدد رہائشیوں کی خدمات کا اعتراف کیا گیا

برامپٹن، آن - برامپٹن سے تعلق رکھنے والے ایک سپورٹس کوچ، کپ کیک شاپ اور ایک مقامی ہاکی ٹیم میں ایک چیز مشترک ہے: ان سب کو معذور افراد کی معاونت کرنے اور با اختیار بنانے میں مثالی کامیابیوں کے لیے سٹی آف برامپٹن کے پہلے سالانہ ایکسیسبلٹی ایوارڈز کے ذریعے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ گذشتہ روز سٹی ہال میں منعقد کیے گئے ایک استقبالیہ میں، جینیفر اینڈریڈ، کرسٹیناز ٹورٹینا شاپ آئی این سی اور برامپٹن ہاکی مجیٹ MD گولڈ ٹیم کو ان کے ایوارڈز پیش کیے گئے۔

وصول کنندگان کا تعین معذور افراد کے لیے رسائی کے اقدامات میں سبقت لے جانے، معذور افراد کے لیے رسائی کے حوالے سے آگاہی پھیلانے، معذور افراد کے لیے موزوں کسٹمر سروس فراہم کرنے، معذور افراد کو کمیونٹی میں شرکت کرنے میں مدد دینے کے لیے مواقع فراہم کرنے اور ملازمت کے مساوی مواقع فراہم کرنے جیسے شعبوں میں ان کے کردار کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔

کمیونٹی ممبر ایوارڈ جینیفر اینڈریڈ کو پیش کیا گیا، جو اسپیشل اولمپکس برامپٹن چیئر میں فعال طور پر شامل ہیں۔ انہوں نے کھیلوں کے ذریعے اتھلیٹس کو تربیت اور معاونت فراہم کرنے میں مدد کی ہے، ان کا اعتماد بڑھانے میں مدد کی ہے اور بالآخر کمیونٹی میں ان کی شمولیت بڑھانے کا پرچار کیا ہے۔

بزنس ایوارڈ کرسٹیناز ٹورٹینا شاپ آئی این سی کے حق میں گیا ہے، جو ایک منفرد کپ کیگری ہے، جو معذوری کے حامل افراد کو ملازمت کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ میری لوسو کی جانب سے اپنی چھوٹی بیٹی کرسٹینا اور ڈاؤن سنڈروم کے حامل دیگر افراد کے لیے بنائی گئی یہ دکان اپنے مقولے "وی بیک ٹو ایڈووکیٹ" پر کاربند ہے اور ہر قسم کی صلاحیتیں رکھنے والے افراد کو تسلیم کرنے اور ان کی حمایت کے ہدف کو ذہن میں رکھ کر بیکری کا کام جاری ہے۔

برامپٹن ہاکی مجیٹ MD گولڈ ٹیم نے ٹیم کے لیے کمیونٹی ممبر ایوارڈ جیتا۔ ٹیم کے اراکین فعال طور پر آگاہی پیدا کرتے ہیں اور معذوریوں کے حامل افراد کی صلاحیتوں کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے ان کی ٹیم کا رکن ہونے کے لیے برف پر کھیلنا ضروری نہیں ہے۔

2019 ایکسیسبلٹی ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں اگست 2019 میں کھلیں گی جبکہ ستمبر کے وسط میں بند جائیں گی۔ نامزدگی فارم سٹی کی ویب سائٹس پر پوسٹ کیے جائیں گے اور اس کی کاغذی نقول موسم گرما 2019 میں سٹی ہال میں دستیاب ہوں گی۔

### اقتباسات

"ہم اپنے اب تک کے پہلے ایکسیسبلٹی ایوارڈز کے جیتنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔ ان تمام لوگوں نے معذوری کے حامل افراد کو با اختیار بنانے اور ان کی زندگیوں کے معیار کو بہتر بنانے میں زبردست عزم ظاہر کیا ہے۔ ان کی مسلسل کوششیں ہم سب کو ترغیب دلاتے ہوئے تمام لوگوں کے لیے مساوی مواقع فراہم کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہیں۔"

- میئر انڈا جیفری

"معذوریوں کے حامل افراد کے لیے پر اعتماد اور خودمختار طریقے سے رہنا اہم ہے۔ ہم بحیثیت ایک کمیونٹی ان کی مشکلات کو جتنا زیادہ ہو سکے ختم کریں گے، وہ لوگ ہمارے شہر میں مساوی طور پر فعال اور شامل ہو سکیں گے۔ ہمارے ایکسیسبلٹی ایوارڈز جیتنے والوں نے ثابت کیا ہے کہ درست مواقع پیدا کر کے اور معذوریوں پر توجہ دینے کی بجائے معذور افراد کی صلاحیتوں کو تسلیم کرنے سے، ہر کسی کے لیے ایک روشن مستقبل پیدا ہو سکتا ہے۔"

- پیٹ فورٹینی، سٹی کونسلر اور ایکسیسبلٹی ایڈوائزر کی کمیٹی کونسل ممبر

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

### میڈیا کنٹیکٹ

کرسٹین شرما

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

[christine.sharma@brampton.ca](mailto:christine.sharma@brampton.ca) | 905.874.2880